



سوال

(498) منہ بولا بیٹا اور بیٹی وراثت کے حق دار نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زید پانچ بھائی زیندار ہے مگر بوجہ نا اتفاقی برادران دو بھائی اپنا اپنا حصہ زینداری جدا کر کے اپنے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے مختار ہوئے اور تین بھائی شراکت میں زینداری اور نان و نفقہ میں اہل و عیال کے منتفق ہیں اتفاقاً قصائے الہی سے چھوٹا بھائی شریک دار زید لا ولد نے انتقال کیا اب بعد وفات برادر مذکور کے بی بی بیبہ شریک نے شوہر متوفی کے بڑے بھائی جدا کردہ کے لڑکے کو پتھر بنا یا یعنی اپنی جگہ زینداری پر جانشین کیا بعد چند عرصہ گزرا کہ بیوہ مذکورہ اپنی لڑکیوں کی پرورش میں مصروف ہوئی اب لڑکا پتھر کردہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی جانشینی وراثت عمومی شریک سے جدا کر کے اپنے تصرف میں لائے اور عمومی مذکور اور بیوہ شریک منکر ہے اس صورت میں لڑکا جانشین حق حصہ عمومی متوفی کا رکھتا ہے یا نہیں اگر رکھتا ہے تو آیات یا احادیث کی تحریر کے ساتھ بیان فرمائیے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو لڑکا معلوم النسب ہے یعنی یہ معلوم ہے کہ اس کا باپ فلاں شخص ہے اس کو اگر کوئی شخص اپنا بیٹا کہہ دے تو اس سے وہ اس کا بیٹا ہو نہیں جاتا وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا باقی رہتا ہے۔

وَمَا يَجْعَلْ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
ع ... سورة الاحزاب

(اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے یہ تمہارے لپٹے مومنوں سے کہنا ہے) پس اس صورت میں لڑکا جانشین حق حصہ عمومی متوفی کا نہیں رکھتا۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب الفرائض، صفحہ: 739



محدث فتویٰ